

ہم آپ کو مشورہ دینے کے لیئے حاضر ہیں

پیر تا جمعرات 16 - 9

پرو جمعہ 15 - 9

ڈینش اور انگریزی زبان کے لیئے

فون نمبر 33 73 50 00

مندرجہ ذیل ٹیلیفون نمبروں پر ڈینش کے علاوہ مختلف زبانوں میں
-بھی مشورہ دیا جاتا ہے

بوسنیا/ سربیا / کروشیا

فون نمبر 33 73 52 33

عربی اور کردش (سورانی)

فون نمبر 33 73 53 28

صومالی

فون نمبر 33 73 53 11

اگر آپ اپنے آبائ وطن مستقل واپسی کے سلسلے میں اپنے حقوق
سے آگاہی کے سلسلہ میں مشورہ چاہتے ہیں تو آپ کو ایک
معلوماتی فارم پُر کرنا ہوگا جو آپ کو ہماری درج ذیل دی گئی ویب
سائٹ پر مل سکتا ہے

www.atvendehjem.dk

www.flygtning.dk/atvendehjem

آپ ہمیں درج ذیل ای میل ایڈریس پر لکھ بھی سکتے ہیں

atvendehjem@drc.ngo



وطن واپسی 2020

کے بارے میں مہاجرین، تارکین وطن اور دہری شہریت کے حامل
افراد جو کہ رضاکارانہ طور پر اپنے آبائ وطن مستقل واپس جانا
-چاہتے ہیں انکے لیے معلومات

اگر آپ اپنے آبائی وطن مستقل واپسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں

ڈینش مہاجرین کونسل شہریوں کو اپنے گھر یا سابقہ رہائشی وطن میں رضاکارانہ طور پر واپس جانے کے بارے میں مشورے دیتی ہے۔ مہاجر ، تارکین وطن اور دوہری شہریت والے افراد (ڈنمارک اور دہری شہریت) کے پاس گھر واپس جانے پر انہیں مالی مدد حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس مدد کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ ڈنمارک کب آئے اور آپ کے پاس کس قسم کی رہائش کا اجازت نامہ ہے۔

اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کو اپنے وطن واپس جانے کے لئے مدد مل سکتی ہے تو ، ہمیں پر ارسال کریں۔ www.atvendehjem.dk ایک معلوماتی فارم

مالی مدد

میں ، بالغ افراد کو اپنے آبائی وطن میں نئی زندگی شروع کرنے کے لئے 142,059 کرون تک کی مالی مدد مل سکتی ہے۔ جبکہ بچوں کو 43,326 کرون تک کی مالی مدد مل سکتی ہے

مالی امداد دو حصوں میں دی جائے گی۔ پہلا حصہ وقت روانگی میں (بڑوں کے لئے زیادہ سے زیادہ 56,823 کرون جبکہ بچوں کے لئے 17,330 کرون تک) اور دوسرا حصہ (بڑوں کے لئے 85,236 کرون تک جبکہ بچوں کے لئے 25,996 کرون تک) آپکے آبائی وطن میں ایک سال مکمل ہونے پر دیا جائیگا۔

اضافی تعاون کے مواقع

- سفری اخراجات
- ذاتی سامان کی منتقلی یا ذاتی سامان کی خریداری کے لئے اخراجات
- کاروباری سامان اور کاروباری سامان کی منتقلی
- بیماری کی انشورنس / علاج معالجے میں 4 سال تک مالی معاونت
- ایک سال کے استعمال کے لئے ادویات
- ضروری امدادی اشیاء
- 5 سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کے لئے 4 سال تک اسکول کے اخراجات
- سفری دستاویزات کے حصول کے لئے معاونت۔

اگر آپ کی عمر 55 سال ہے

اگر آپ کی عمر کم از کم 55 سال ہے اور آپ اپنے آبائی وطن مستقل طور پر جانا چاہتے ہیں تو ہر ماہ آپکی مستقل مالی معاونت کی جاسکتی ہے

اگر آپ کی عمر 50 سے 54 سال کے درمیان ہے تو آپ کو خاص حالات میں ادائیگی کی جاسکتی ہے۔

عام طور پر ماہانہ 2,800 کرون سے 3,600 کرون کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ مدد آپ کو اس صورت

میں مل سکتی جب آپ کم از کم 5 سال قانونی طور پر ڈنمارک میں رہائش اختیار کر چکے ہوں

اگر ڈنمارک اور آپ کے آبائی وطن کے مابین دوطرفہ معاہدہ موجود ہو تو ممکنہ طور پر آپ کی پنشن کا کچھ حصہ آپ کو مل سکتا ہے

اپنے فیصلے کو بدلنے کا حق

مہاجرین کو ایک سال کے اندر اپنے آبائی وطن واپس جانے اور ڈنمارک سے چلے جانے کے فیصلے کو بدلنے کا حق حاصل ہے۔ ان کے لئے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بار پھر ڈنمارک میں رہائشی اجازت نامہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تاہم اگر انہیں وطن واپسی پر افسوس ہے تو انہیں وطن واپسی کی پوری امداد واپس ادا کرنا ہوگی۔

تارکین وطن کو ڈنمارک واپس آنے کا حق نہیں جب کہ وہ اپنے وطن جا چکے ہوں اور اپنے وطن واپس جانے کے لئے مالی مدد لے چکے ہوں۔ ان کے لئے یہ فیصلہ حتمی ہے اور انہیں ان تمام حقوق سے دستبردار ہونا ہوگا جو انہوں نے اپنے ڈنمارک میں قیام کے دوران حاصل کیے۔

دوہری شہریت کے حامل افراد کو جانے سے پہلے اپنی ڈنمارک کی شہریت ترک کرنا ہوگی۔ انہیں دو سال کے لئے ڈنمارک کی شہریت ترک کرنے کے فیصلے پر افسوس کا موقع ہے۔ اگر انہیں وطن واپسی پر پچھتاوا ہے تو ، انہیں وطن واپسی کی پوری مالی مدد واپس کرنا ہوگی۔

اگر آپ کو اس بارے میں مزید معلومات چاہئیں

اگر آپ اپنے وطن واپس جانے پر غور کر رہے ہیں تو ، براہ کرم ہمیں ایک انفارمیشن فارم ارسال کریں جو آپ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ ایک انفرادی ملاقات میں ہم آپ کو آپ کے اختیارات اور حقوق سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ آپ اپنا فیصلہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہم گفتگو کے لئے ایک ترجمان بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام آپ کو وہ معلومات فراہم کرنا ہے جس کی آپ کو فیصلہ کرنے میں ضرورت ہو سکتی ہے۔